

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے تیز اسکریننگ کے ساتھ مقامی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے RIC سینٹر اور کمیونٹیٹک کے ساتھ شراکت داری کر رہا ہے

برامپٹن، آن (9 جون 2021) – آج سٹی آف برامپٹن نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اکنامک ڈیولپمنٹ آفس نے برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس کے تعاون کے ساتھ، برامپٹن میں موجود چھوٹے سے لے کر درمیانے سائز کے کاروباروں کو کووڈ-19 کی تیز اسکریننگ کٹس مفت فراہم کرنے کے لیے RIC سینٹر اور کمیونٹیٹک (Communitech) کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ مختصراً یہ محفوظ رہیں، پروگرام کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں کمی لانے میں مدد کرے گا اور مقامی معیشت کی تیزی سے بحالی کو یقینی بنائے گا۔

تیز انٹیجین اسکریننگ، بغیر علامات کے کووڈ-19 کیسز کی شناخت کرنے میں مدد کا تیز طریقہ ہے اس سے پہلے کہ اس سے وہ جائے کار میں پھیل جائیں۔ علامات کے بغیر اور علامات سے پہلے مرض سے متاثرہ افراد کی جلد شناخت کرنا جائے کار اور کمیونٹی دونوں میں پھیلاؤ کو محدود کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ محفوظ رہیں تیز اسکریننگ کی کٹس تک رسائی فراہم کرتا ہے تاکہ کاروباری ادارے جائے کار میں اسکریننگ پروگرام کا نظم کر سکیں۔

### محفوظ رہیں (StaySafe)

وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے مالی معاونت حاصل کرنے والا، محفوظ رہیں پروگرام 150 سے کم ملازمین والے ان تمام کاروباری اداروں کے لیے مفت ہے جو گھر سے کام نہیں کر سکتے یا کام کے دوران سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔

تیز انٹیجین پوائنٹ آف کیئر اسکریننگ ٹیسٹس سے ملازمین کام کے آغاز سے پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور چند منٹوں میں اس ٹیسٹ کے نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی ملازم کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو دیگر ملازمین کو وائرس سے متاثر ہونے کے خطرے میں ڈالے بغیر ان کا آجر انہیں نزدیک ترین کووڈ ٹیسٹنگ سینٹر پر مزید فیصلہ کن ٹیسٹنگ کے لیے بھیج سکتا ہے۔

یہ سہولت برامپٹن میں 150 یا اس سے کم ملازمین کی حامل تنظیموں کے لیے دستیاب ہے۔ پہلا آرڈر لینے سے پہلے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تربیت اور رجسٹریشن درکار ہو گی۔ تنظیمیں پیاں پروگرام کے بارے میں مزید جان سکتی ہیں اور سائن اپ کر سکتی ہیں۔

150 سے زائد ملازمین کے حامل کاروباری ادارے اونٹاریو حکومت کے پورٹل سے براہ راست آرڈر کر سکتے ہیں۔

### معیشت کی بحالی

دوبارہ کھلنے کے صوبائی منصوبے کے مرحلہ اول کے تحت، غیر اساسی خوردہ فروشی کو ان کی مکمل گنجائش کے 15 فیصد تک کی اجازت دی گئی ہے، جس میں سے ان اشیاء پر کوئی پابندی نہیں ہے جنہیں فروخت کیا جا سکتا ہے جبکہ اساسی اور دیگر منتخب شدہ اشیاء خوردہ کے لیے مکمل گنجائش کے 25 فیصد تک کی اجازت ہے، جس میں سے ان اشیاء پر کوئی پابندی نہیں ہے جنہیں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی کاروباری ادارے دوبارہ کھلنے کی تیاری کریں گے، تیز انٹیجین ٹیسٹنگ صرف ورکرز کی مدد نہیں کرے گی، بلکہ اس سے برامپٹن کے رہائشیوں کو مقامی کاروباری اداروں میں پُر اعتماد طور پر داخل ہونے میں بھی مدد ملے گی۔

پچھلے سال، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کی معیشت کی بحالی کی حکمت عملی کو مقامی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے کے ساتھ شہر کو آگے بڑھانے کے فریم ورک کے طور پر منظوری دی تھی۔ معیشت کی بحالی کی حکمت عملی کا مقصد برامپٹن کی معیشت کے آگے بڑھنے کے علاوہ اس کے لیے ابھرنے کی قوت اور مسابقتی فوائد بھی لانا ہے۔ اس حکمت عملی کو چار بنیادوں پر منظم کیا گیا ہے: جدت، ٹیکنالوجی اور کاروبار کو فروغ دینا، جس میں کاروبار کو فروغ دینے والوں اور چھوٹے کاروباروں؛ سرمایہ کاری؛ فنون عامہ، ثقافت اور سیاحت اور انفراسٹرکچر کے لیے بہتر معاونت شامل ہے۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

"کووڈ-19 کی عالمگیر وباء ہمارے مقامی کاروباروں اور پوری برامپٹن کمیونٹی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے۔ تیز اسکریننگ کے علاوہ، مل کر کام کرنا جاری رکھ کر اور اپنے لیے دستیاب تمام ٹولز - سماجی فاصلہ بندی، ماسک پہننا، اچھی صحت و صفائی برقرار رکھنا اور عوامی صحت کی تمام تدابیر پر عمل کرنا - کو زیر استعمال لا کر - ہم سب ان لوگوں کو دیکھنے میں جنہیں ہم نے بہت یاد کیا ہے، اپنی محبوب سرگرمیوں میں حصہ لینے اور برامپٹن کے ہمارے حیرت انگیز کاروباروں سے لطف اندوز ہونے میں ایک قدم مزید نزدیک آجائیں گے۔ میں RIC سینٹر اور کمیونٹیٹک پر اپنے شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور برامپٹن میں موجود تمام چھوٹے اور درمیانے سائز کے کاروباری اداروں کو محفوظ رہیں پروگرام کے ذریعے سے آپ کی محفوظ ٹیسٹ اسکریننگ کٹس حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"شراکت داریاں اور جدید سوچ ہمارے کووڈ-19 کی عالمگیر وباء سے نکلنے کے ساتھ ہمیں زندگی کو محفوظ سمت دکھانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گی۔ RIC سینٹر اور کمیونٹیٹک کے ساتھ ہماری شراکت داری کی کوششوں کے ذریعے اور چھوٹے اور درمیانے سائز کے کاروباروں کے لیے تیز ٹیسٹنگ کے استعمال کے ذریعے، ہم پُر اعتماد طور پر اپنے عظیم مقامی کاروباروں کی معاونت کرتے ہوئے، برامپٹن کے شہریوں اور برامپٹن میں موجود اپنے محنتی ورکرز کا تحفظ جاری رکھیں گے۔"

- مارٹن میڈی روس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے کووڈ-19 کی عالمی وباء کے اثرات سے آگے بڑھنے کے ساتھ، ہمیں لازمی طور پر مقامی معیشت کو از سر نو شروع کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رہائشیوں اور ورکرز کے تحفظ پر توجہ دینا جاری رکھنا چاہیے۔ ہم برامپٹن کی تمام اہل کمپنیوں کو محفوظ رہیں پروگرام کے ذریعے سے ان کی تیز اسکریننگ کٹس لینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حفاظت کو پہلے اپناتے ہوئے، ہم سب پُر اعتمادی سے اور بحفاظت طور پر اپنے عظیم مقامی کاروباروں کی معاونت کر سکتے ہیں۔"

- پال ویسٹ، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، سکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن دوبارہ کھلنے کے صوبائی منصوبے کے مرحلہ اول میں ہمارے داخل ہونے کے ساتھ ہمارے مقامی کاروباروں کی معاونت کرتے ہوئے اس میں موجود عملہ ہماری کمیونٹی میں موجود ہمارے رہائشیوں اور ورکرز کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلسل پر عزم ہے۔ RIC سینٹر اور کمیونٹیٹک میں ہمارے شراکت داروں کا شکریہ۔ تیز ٹیسٹس ہماری کمیونٹی میں کووڈ-19 کا پھیلاؤ کم کرنے میں مدد دیں گے اور مقامی معیشت کی بحالی کو یقینی بنائیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"RIC سینٹر کو اس پروجیکٹ میں شراکت دار بننے پر فخر ہے جس کا مقصد ہماری کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ آبادی کے تحفظ میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس کے محفوظ رہیں جیسے پروگرامز جو عام حالت پر واپس آنے کے لیے فاصلے کو ختم کرنے اور اس دوران محفوظ رہنے میں مدد کر رہے ہیں۔ تبدیلی کے لیے جدت کے عمل میں تیزی لانے والے عنصر کے طور پر، RIC سینٹر اس پروگرام کو پھلتا پھولتا دیکھنے کا منتظر ہے اور تمام اہل تنظیموں کو سائن اپ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔"

- پام بینکس، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، RIC سینٹر

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن